

# آسان اردو ترجمہ



حافظ نذر احمد

انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی

حیدرآباد - انڈیا

فون : 0091 96524 30971 / 0091 40 23511371

e-mail: info@understandquran.com

# آسان ترجمہ قرآن مجید

تسويد وترتيب	حافظ نذر احمد	پرنسپل تعليم القرآن خط و کتابت سکول، لاہور- ۵
نظرِ ثانی	مولانا عزیز زبیدی	مُدیر مجلہ ”اہلحدیث“، لاہور
	مولانا پروفیسر مُزمل احسن شیخ	ایم اے (عربی - اسلامیات - تاریخ)
	مولانا مفتی محمد حسین نعیمی	مہتمم جامعہ نعیمہ، لاہور
	مولانا محمد سرفراز نعیمی الازہری	فاضل درسِ نظامی ایم اے (عربی - اسلامیات)
	مولانا عبدالرؤف ملک	خطیب جامع آسٹریلیا، لاہور
	مولانا سعید الرحمن علوی	خطیب جامع مسجد الشفاء، شاہ جمال، لاہور

## الحمد لله

”آسان ترجمہ قرآن مجید“ کئی اعتبار سے مُنفرد ہے :

- پر لفظ کا جُدا جُدا ترجمہ اور پوری سطر کا سلیس ترجمہ یکساں ہے۔
- یہ ترجمہ تینوں مسلک کے علمائے کرام (اہلِ سنّت والجماعت، دیوبندی، بریلوی اور اہلِ حدیث) کا نظر ثانی شدہ اور ان کا متفق علیہ ہے۔

## انشاء اللہ

عربی سے ناواقف بھی چند پارے پڑھ کر اس کی مدد سے پورے کلام اللہ کا ترجمہ بخوبی سمجھ سکیں گے۔

اے اللہ کریم ! اس خدمت کو بابرکت اور باعثِ خیر بنادے، خصوصاً طلبہ کے لئے قرآنِ فیہی اور عمل بالقرآن کا ذریعہ اور بندہ کے لئے فلاحِ دارین کا وسیلہ بنادے (آمین)۔


## حافظ نذر احمد

۱۰ ربیع الثانی ۱۴۰۸ ھ

۳ دسمبر ۱۹۸۷ء

بیئُ اللہ الحرام، مکہ مکرمہ





اللہ کے نام سے جو  
بہت مہربان، رحم  
کرنے والا ہے۔ (1)


تمام تعریفیں اللہ کے لئے  
ہیں جو تمام جہانوں کا  
رب ہے، (2)

بہت مہربان، رحم کرنے  
والا۔ (3)

بدلے کے دن کا مالک۔ (4)  
ہم صرف تیری ہی عبادت  
کرتے ہیں اور صرف تجھ  
ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ (5)  
ہمیں سیدھے راستے کی

ہدایت دے، (6)  
اُن لوگوں کا راستہ جن  
پر تُو نے انعام کیا، نہ اُن  
کا جن پر غضب کیا گیا  
اور نہ اُن کا جو گمراہ  
ہوئے۔ (7)

<b>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</b> (۱)					
نام سے	اللہ	بہت مہربان	رحم کرنے والا	1	
<b>الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ</b> (۲)					
تمام تعریفیں	اللہ کے لئے	رب	تمام جہان	2	بہت مہربان
<b>الرَّحِيمِ</b> (۳)					
رحم کرنے والا	3	مالک	دن	بدلہ	4
<b>وَأَيُّكَ نَسْتَعِينُ</b> (۴)					
اور صرف تجھ ہی سے	ہم مدد چاہتے ہیں	5	ہمیں ہدایت دے	راستہ	
<b>الْمُسْتَقِيمِ</b> (۵)					
سیدھا	6	راستہ	اُن لوگوں کا	تُو نے انعام کیا	اُن پر
<b>غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ</b> (۶)					
نہ	غضب کیا گیا	اُن پر	اور نہ	جو گمراہ ہوئے	7



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نام سے اللہ بہت مہربان رحم کرنے والا

اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، رحم کرنے والا ہے۔

آلِف لام میم (1)

آلَم ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى

یہ (اللہ کی) کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لئے ہدایت ہے۔

لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ

جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اُس میں سے خرچ کرتے ہیں، (3)

وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿۳﴾

اور جو لوگ اُس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور وہ پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ (4)

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْكَ وَمَا

اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ﴿۴﴾

اور جو لوگ اُس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آپ پر نازل کیا گیا اور وہ پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ (4)

اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ﴿۴﴾

نازل کیا گیا اور وہ پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ (4)

اور جو لوگ اُس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور وہ پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ (4)

اور جو لوگ اُس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور وہ پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ (4)

اور جو لوگ اُس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور وہ پہلے نازل کیا گیا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ (4)

یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے  
ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ  
کامیاب ہیں۔ (5)

بیشک جن لوگوں نے کفر کیا،  
ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں  
ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں  
لائیں گے۔ (6)

اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے  
کانوں پر مہر لگادی۔ اور ان کی  
آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور ان کے  
لئے بڑا عذاب ہے۔ (7)

اور لوگوں میں کچھ ایسے تھے ہیں  
جو کہتے ہیں: ہم ایمان لائے اللہ پر  
اور آخرت کے دن پر جبکہ نہیں وہ  
ایمان والے۔ (8)

وہ دھوکا دیتے ہیں اللہ اور ایمان  
والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکا  
دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ نہیں  
سمجھتے۔ (9)

ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو  
اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی،  
اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے  
کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ (10)  
اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ  
زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے  
ہیں کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے  
ہیں۔ (11)

سُن رکھو! بیشک وہی لوگ  
فساد کرنے والے ہیں اور لیکن وہ  
نہیں سمجھتے۔ (12)

اور جب انہیں کہا جاتا ہے: تم  
ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے  
تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان  
لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے؟  
سُن رکھو! خود وہی بیوقوف ہیں  
اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ (13)

اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو  
ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان  
لائے اور جب اپنے شیطانوں کے  
پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم  
تمہارے ساتھ ہیں، (مومنوں سے)  
محض ہم مذاق کرتے ہیں۔ (14)

اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان  
کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے،  
وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ (15)

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾						
یہی لوگ	پر	ہدایت سے	اپنا رب	اور یہی لوگ	وہ	کامیاب
5						
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ						
ہے	جن	کفر کیا	برابر	ان پر	چاہے آپ انہیں	ڈرائیں یا نہ
شک	لوگوں نے				ڈرائیں	ڈرائیں انہیں
لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ						
نہیں	ایمان لائیں گے	6	مہر لگادی	پر	ان کے دل	اور پر
			اللہ نے		ان کے کان	اور پر
أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ						
ان کی	آنکھیں	پردہ	اور ان کے	عذاب	بڑا	7
			لئے			اور سے
أَن كَىٰ أَتَكْمِبِينَ ﴿٨﴾						
جو	کہتے ہیں	ہم ایمان	اللہ پر	اور دن پر	آخرت	جبکہ
		لائے			نہیں	وہ
وَمَا يَتَّقُونَ ﴿٩﴾						
وہ	دھوکا دیتے ہیں	اللہ	اور جو لوگ	ایمان لائے	اور نہیں	دھوکا دیتے
					مگر	اپنے آپ
وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا						
اور	نہیں	وہ سمجھتے ہیں	9	میں	ان کے دل (جمع)	بیماری
					سو اللہ نے	بڑھادی ان کی
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾						
اور ان کے	عذاب	دردناک	کیونکہ	وہ جھوٹ بولتے ہیں	10	اور جب
لئے						کہا جاتا ہے
لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١٢﴾						
انہیں	نہ فساد پھیلاؤ	زمین میں	وہ کہتے ہیں	صرف	ہم	اصلاح کرنے والے
11						
إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٣﴾						
سُن	رکھو	بیشک	وہی	فساد کرنے والے	اور لیکن	وہ نہیں سمجھتے
اور	جب	12				
قِيلَ لَهُمْ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ						
کہا جاتا ہے	انہیں	تم ایمان	جیسے	ایمان	لوگ	وہ کہتے ہیں
		لاؤ		لائے		کیا ہم ایمان
						لائیں جیسے
السُّفَهَاءُ ﴿١٤﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾						
بیوقوف	سُن	خود وہ	وہی	بیوقوف	اور لیکن	وہ جانتے
	رکھو					13
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ						
اور جب ملتے ہیں	جو لوگ	ایمان لائے	کہتے ہیں	ہم ایمان لائے	اور جب	اکیلے ہوتے ہیں
						پاس
شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٦﴾						
اپنے شیطان	کہتے ہیں	ہم	تمہارے ساتھ	محض	ہم	مذاق کرتے ہیں
14						
اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٧﴾						
اللہ	مذاق کرتا ہے	ان سے	اور بڑھاتا ہے	ان کی سرکشی میں	اندھے ہو رہے ہیں	15
			ہے ان کو			

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ						
یہی لوگ	جنہوں نے	مُول لی	گمراہی	ہدایت کے بدلے	تو نہ فائدہ دیا	اُن کی تجارت
وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا						
اور نہ تھے	وہ ہدایت پانے والے	16	اُن کی مثال	جیسے مثال	وہ جس نے	بھڑکائی آگ
فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي						
بھر جب	روشن کر دیا	اُس کا ارد گرد	چمیں لی اللہ نے	اُن کی روشنی	اور انہیں	چموڑ دیا
ظُلُمْتَ لَا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾						
اندھیرے	وہ نہیں دیکھتے	17	بہرے	گونگے	اندھے	سو وہ نہیں لوٹیں گے
أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ						
یا	جیسے بارش	سے	آسمان	اُس میں	اندھیرے	اور گرج
				اور بجلی کی	چمک	وہ ٹھونس لیتے ہیں
أَصَابِعُهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ						
اپنی انگلیاں	میں	اپنے کان	سبب	کڑک (بجلی)	ڈر	موت اور اللہ گھیرے ہوئے
بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَحْطِفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ						
کافروں کو	19	قریب ہے	بجلی	اچک لے	اُن کی نگاہیں	جب بھی وہ چمکی اُن پر
مَشَوْا فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ						
چل پڑے	اُس میں	اور جب	اندھیرا ہوا	اُن پر	وہ کھڑے ہو گئے	اور اگر چاہتا اللہ چمیں لیتا
بِسْمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾						
اُن کی شنوائی	اور اُن کی آنکھیں	بیشک اللہ	پر	ہر چیز	قادر	20
يَأْتِيهَا النَّاسُ آعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ						
اے لوگو	تم عبادت کرو	اپنا رب	جس نے	تمہیں پیدا کیا	اور وہ لوگ جو	تم سے پہلے
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً						
تاکہ تم	پرہیزگار ہو جاؤ	21	جس نے	بنایا	تمہارے لئے	زمین فرش اور آسمان چمت
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ						
اور اتارا	سے	آسمان	پانی	بھر نکالا	اُس کے ذریعہ	مے سے
						بھل (جمع) رزق تمہارے لئے
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ						
سو نہ	ٹھہراؤ	اللہ کے لئے	کوئی شریک	اور تم	جلتے ہو	22 اور اگر تم ہو میں شک
مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا						
سے جو	ہم نے اتارا	پر	اپنا بندہ	تو لے آؤ	ایک سورہ	اس کی جیسی اور بلا لو
شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾						
اپنے مددگار	کے	سوا	اللہ	اگر	تم ہو	سچے
						23

یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مُول لی، تو اُن کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ (16) اُن کی مثال اُس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی، پھر آگ نے اُس کا ارد گرد روشن کر دیا تو اللہ نے چمیں لی اُن کی روشنی اور انہیں اندھیروں میں چموڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتے۔ (17) بہرے گونگے اور اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ (18) یا جیسے آسمان سے بارش ہو، اُس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی کی چمک، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ (19) قریب ہے کہ بجلی اُن کی نگاہیں اچک لے، جب بھی وہ اُن پر چمکی وہ اُس میں چل پڑے اور جب اُن پر اندھیرا ہوا وہ کھڑے ہو گئے اور اگر اللہ چاہتا تو چمیں لیتا اُن کی شنوائی اور اُن کی آنکھیں، بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (20) اے لوگو! تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور اُن لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ (21) جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چمت، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اُس کے ذریعہ بھل نکالے تمہارے لئے رزق، سو اللہ کے لئے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ (22) اور اگر تمہیں اِس (کلام) میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اِس جیسی ایک سورہ لے آؤ، اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ (23)

تھر اگر تم نہ کرسکو اور برگز نہ کرسکو گے تو اُس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں،

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا

تھر اگر تم نہ کرسکو اور برگز نہ کرسکو گے تو ڈرو آگ جس کا ایندھن

کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ (24) اور اُن لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور اُنہوں نے نیک

النَّاسِ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۲۴﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا

انسان اور پتھر تیار کی گئی کافروں کے لئے اور خوشخبری دو جو لوگ ایمان لائے

عمل کئے کہ اُن کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب بھی اُنہیں اُس سے کوئی پھل کھانے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا

اور اُنہوں نے عمل کئے نیک کہ اُن کے لئے باغات بہتی ہیں اُن کے نیچے نہریں جب بھی

کو دیا جائیگا وہ کہیں گے: یہ ویسا ہی ہے جیسا ہمیں اس سے پہلے (دنیا میں) کھانے کو دیا گیا تھا

رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ

کھانے کو اُس سے کوئی پھل رزق کہیں گے یہ وہ جو کہ ہمیں کھانے سے پہلے

حالانکہ اُنہیں اُس سے ملتا چلتا دیا گیا تھا، اور اُن کے لئے اُس میں بیویاں ہیں پاکیزہ، اور وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (25)

وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا

حالانکہ اُنہیں دیا گیا اُس سے ملتا چلتا اور اُن کے لئے اُس میں بیویاں پاکیزہ اور وہ اُس میں

بیشک اللہ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر جیسی ہو یا خواہ اُس سے اوپر (بڑھ کر)، سو جو لوگ ایمان لائے

خَالِدُونَ ﴿۲۵﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعْضُهُ

ہمیشہ رہیں گے 25 بیشک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال جو مچھر خواہ جو

تو وہ جانتے ہیں کہ وہ اُن کے رب کی طرف سے حق ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں: اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا،

فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

اُس سے اوپر سو جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق سے اُن کا رب

وہ اس سے بہت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، (26)

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ

اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس سے مثال کرتا ہے وہ گمراہ کرتا ہے اور اس سے بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے

نافرمانوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا، (26) جو لوگ اللہ سے کیا گیا عہد توڑتے ہیں پختہ اقرار کرنے کے بعد، اور اُس کو کالتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ اُسے جوڑے رکھیں اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ

بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿۲۶﴾

اِس سے بہت لوگ اور ہدایت دیتا ہے اِس سے بہت لوگ اور نہیں گمراہ کرتا اِس سے مگر نافرمان 26

نقصان اُٹھانے والے ہیں۔ (27) تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو، اور تم بے جان نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا پھر تمہیں چلائے گا پھر اُس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (28)

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ

جو لوگ توڑتے ہیں اللہ سے کیا گیا عہد کے بعد پختہ اقرار اور کالتے ہیں

وہ اُسے حکم دیا اللہ نے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ اُسے جوڑے رکھیں اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ

هُمْ الْخَاسِرُونَ ﴿۲۷﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا

وہ نقصان اُٹھانے والے 27 کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کا اور تم تھے بے جان

تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا پھر تمہیں چلائے گا پھر اُس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (28) وہی ہے جس نے تمہارے لئے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر اُس نے آسمان کی طرف دھیان دیا، پھر اُن کو ٹھیک بنا دیا سات آسمان، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ (29)

فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۸﴾

تو اُس نے تمہیں زندگی بخشی پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں چلائے گا پھر اُس کی طرف لوٹائے جاؤ گے 28

وہی ہے جس نے تمہارے لئے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر اُس نے آسمان کی طرف دھیان دیا، پھر اُن کو ٹھیک بنا دیا سات آسمان، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ (29)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى

وہ جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو میں زمین سب پھر دھیان دیا طرف

آسمان، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ (29)

السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۹﴾

آسمان پھر اُن کو سات آسمان اور وہ ہر چیز جاننے والا 29



اور جب	کہا	تمبارا رب	فرشتوں سے	کہ میں	بنانے والا	میں	زمین	ایک نائب	انہوں نے کہا
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۗ قَالُوۡۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۗ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ									
کہا تو	اس میں	جو	فساد کرے گا	اس میں	اور بہائے گا	خون	اور ہم	بے عیب	کچھ ہیں
بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۳۰) وَعَلَّمَ									
تیری تعریف کے ساتھ	اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں	تیری	کہا	اس نے	بیشک میں	جو	تم نہیں جانتے	30	اور سیکھائے
اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِیْ									
آدم	نام	سب چیزیں	پھر	انہیں سامنے کیا	پر	فرشتے	پھر کہا	مجھ بتلاؤ	
بِاسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (۳۱) قَالُوۡۤا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا									
نام	ان	اگر	تم ہو	سچے	31	انہوں نے کہا	تو پاک ہے	علم نہیں	ہمیں
اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ (۳۲) قَالَ یٰۤاٰدَمُ اَنْبِئْهُمْ									
مگر جو	تو نے ہمیں سیکھایا	تو	بیشک تو	تو	جاننے والا	حکمت والا	32	اس نے فرمایا	اے آدم بتادے
بِاسْمَآئِهِمْ ۗ فَلَمَّآ اَنْبَاَهُمْ بِاسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ									
ان کے نام	سو جب	اس نے انہیں بتلائے	ان کے نام	اس نے فرمایا	کہا	میں نے	تمہیں	کہ میں	جاننا ہوں
غَیْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ (۳۳)									
آسمانوں کی چھپی ہوئی باتیں	اور زمین	اور میں	جو	تم ظاہر کرتے ہو	اور	تم ہو	چھپاتے	33	
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوۡۤا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوۡۤا اِلَّا اِبْلِیْسَ ۗ									
اور جب	ہم نے کہا	فرشتوں کو	تم سجدہ کرو	آدم کو	تو انہوں نے سجدہ کیا	سوائے	ابلیس		
اَبٰی وَاَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ (۳۴) وَقُلْنَا یٰۤاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ									
اس نے انکار اور تکبر کیا	اور ہو گیا	سے	کافر	34	اور ہم نے کہا	اے آدم	تم رہو	تم	
وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا ۗ وَلَا تَقْرَبَا									
اور تمہاری بیوی	جنت	اور تم دونوں کھاؤ	اس سے	اطمینان سے	جہاں	تم چاہو	اور نہ	قریب جانا	
هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوۡنَا مِنَ الظَّٰلِمِیۡنَ (۳۵) فَازْلَمَهُمَا الشَّیْطٰنُ									
اس	درخت	پھر تم ہو جاؤ گے	سے	ظالم (جمع)	35	پھر ان دونوں کو بھسلا	شیطان		
عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِیْهِ ۗ وَقُلْنَا اهْبِطُوۡۤا بَعْضُكُمْ									
اس سے	پھر انہیں نکلوا دیا	سے جو	وہ تھے	اس میں	اور ہم نے کہا	تم اتر جاؤ	کچھ تمہارے		
لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ وَلَكُمْ فِی الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰی حَیۡنٍ ۗ فَتَلَقٰی									
کچھ کے لئے	دشمن	اور تمہارے لئے	میں	زمین	ٹھکانہ	اور سامان	تک	وقت	36
اٰدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمٰتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ (۳۷)									
آدم سے	اپنا رب	کلمات	پھر اس نے توبہ قبول کی	اس کی	بیشک وہ	وہ	توبہ قبول کرنے والا	رحم کرنے والا	37

اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا: کیا تو اس میں بناؤ گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تجھ کو بے عیب کہتے ہیں، اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس نے کہا: بیشک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ (30)

اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کیا، پھر کہا کہ مجھے ان کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ (31)

انہوں نے کہا: تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر (صرف وہ) جو تو نے ہمیں سکھایا، بیشک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ (32)

اس نے فرمایا: اے آدم! انہیں ان کے نام بتلا دے، سو جب اس نے ان کے نام بتلائے، اس نے فرمایا: کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں چھپی ہوئی باتیں آسمانوں اور زمین کی اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ (33)

اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا: تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ (34)

اور ہم نے کہا اے آدم! تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے، اور نہ قریب جانا اس درخت کے (ورنہ) تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ (35)

پھر شیطان نے ان دونوں کو بھسلا اس سے۔ پھر انہیں نکلوا دیا اس حالت سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا: تم اتر جاؤ، کچھ تمہارے (دوسرے) کچھ کے لئے دشمن ہیں، اور تمہارے لئے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان (زندگی) ہے۔ (36)

پھر آدم نے حاصل کر لئے اپنے رب سے کچھ کلمات، پھر اس نے اس (آدم) کی توبہ قبول کی، بیشک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ (37)

ہم نے کہا: تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پس جب تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے، سو جو چلا میری ہدایت پر، نہ اُن پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ (38)

اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اُس میں رہیں گے۔ (39)

اے بنی اسرائیل (اولادِ یعقوب)! میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی اور پورا کرو میرے ساتھ کیا گیا عبد، میں تمہارے ساتھ کیا گیا عبد پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ (40)

اور اُس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اُس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے اُس کے کافر نہ ہو جاؤ اور میری آیات کے بدلے تمہوڑی قیمت نہ لو، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ (41)

اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے، اور حق کو نہ چمپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ (42)

اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ (43)

کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور اپنے آپ کو ٹھہول جاتے ہو؟ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا بھرتے تم سمجھتے نہیں؟ (44)

اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور وہ بڑی (دشوار) ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر (نہیں) (45)

وہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اُس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (46)

اے بنی اسرائیل (اولادِ یعقوب)! تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانے والوں پر۔ (47)

اور اُس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کا کچھ بدلہ نہ پنے گا، اور نہ اُس سے کوئی سفارش قبول کی جائیگی، اور نہ اُس سے کوئی تاوان لیا جائیگا، اور نہ اُن کی مدد کی جائیگی۔ (48)

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَاِمَّا يٰٓاَتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ

ہم نے کہا	تم اتر جاؤ	یہاں سے	سب	پس جب	تمہیں پہنچے	میری طرف سے	کوئی ہدایت	سو جو	چلا
-----------	------------	---------	----	-------	-------------	-------------	------------	-------	-----

هُدًى فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

میری ہدایت	تو نہ	کوئی خوف	اُن پر	اور نہ	وہ	غمگین ہوں گے	38	لوگوں نے	اور جن نے	کفر کیا
------------	-------	----------	--------	--------	----	--------------	----	----------	-----------	---------

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿٣٩﴾

اور جھٹلایا	ہماری آیات	وہی	دوزخ والے	وہ	اُس میں	ہمیشہ رہیں گے	39
-------------	------------	-----	-----------	----	---------	---------------	----

يٰٓبَنِي ۤاِسْرٰٓءِٖلِ اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ۗ وَاَوْفُوا

اے اولاد	یعقوب	تم یاد کرو	میری نعمت	جو	میں نے بخشی	تمہیں	اور پورا کرو
----------	-------	------------	-----------	----	-------------	-------	--------------

بِعَهْدِيْ ۗ اُوْفٍ بِعَهْدِكُمْ ۗ وَاٰيٰى فَاَرْهَبُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَاٰمِنُوْا بِمَا

میرے ساتھ	میں پورا کروں گا	تمہارے ساتھ	اور مجھ ہی سے	ڈرو	40	اور تم ایمان لاؤ	اُس پر جو
-----------	------------------	-------------	---------------	-----	----	------------------	-----------

اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ ۗ وَلَا تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كٰفِرٍ بِهٖ ۗ وَلَا تَشْتَرُوْا

میں نے نازل کیا	تصدیق کرنے والا	اُس کی جو	تمہارے پاس	اور نہ	ہو جاؤ	پہلے	کافر	اُس کے	اور نہ	مُول لو
-----------------	-----------------	-----------	------------	--------	--------	------	------	--------	--------	---------

بِآيٰتِيْ ثَمٰنًا قَلِيْلًا ۗ وَاٰيٰى فَاتَّقُوْنَ ﴿٤١﴾ وَلَا تَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ

میری آیات سے	قیمت	تمہوڑی	اور مجھ ہی سے	ڈرو	41	اور نہ	ملاؤ	حق	باطل سے
--------------	------	--------	---------------	-----	----	--------	------	----	---------

وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ ۗ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ ۗ وَاَتُوْا الزَّكٰوةَ

اور نہ چمپاؤ	حق	جبکہ تم	جانتے ہو	42	اور قائم کرو	نماز	اور ادا کرو	زکوٰۃ
--------------	----	---------	----------	----	--------------	------	-------------	-------

وَارْكَعُوْا مَعَ الرُّكْعٰٓيْنَ ﴿٤٣﴾ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ ۗ وَتَنْسَوْنَ

اور رکوع کرو	ساتھ	رکوع کرنے والے	43	کیا تم حکم دیتے ہو	لوگ	نیکی کا	اور تم ٹھہول جاتے ہو
--------------	------	----------------	----	--------------------	-----	---------	----------------------

اَنْفُسِكُمْ ۗ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾ وَاَسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ

اپنے آپ	حالانکہ تم	پڑھتے ہو	کتاب	کیا تمہیں نہیں	تم سمجھتے	44	اور تم مدد حاصل کرو	صبر سے
---------	------------	----------	------	----------------	-----------	----	---------------------	--------

وَالصَّلٰوةِ ۗ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ﴿٤٥﴾ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ

اور نماز	اور وہ	بڑی (دشوار)	مگر	پر	عاجزی کرنے والے	45	وہ جو	سمجھتے ہیں
----------	--------	-------------	-----	----	-----------------	----	-------	------------

اَنْهُمْ مُّٰلِقُوْا رَبِّهٖمْ ۗ وَاَنْتُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿٤٦﴾ يٰٓبَنِي ۤاِسْرٰٓءِٖلِ

کہ وہ	ملنے والے	اپنا رب	اور یہ کہ وہ	اُس کی طرف	لوٹنے والے	46	اے اولاد	یعقوب
-------	-----------	---------	--------------	------------	------------	----	----------	-------

اذْكُرُوْا نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ۗ وَاِنِّيْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾

تم یاد کرو	میری نعمت	جو	میں نے بخشی	تم پر	اور یہ کہ میں نے	تمہیں	فضیلت دی	پر	زمانے والے	47
------------	-----------	----	-------------	-------	------------------	-------	----------	----	------------	----

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْۤا ۗ وَلَا يُقْبَلُ

اور ڈرو	اُس دن	نہ بدلہ پنے گا	کوئی شخص	سے	کسی شخص	کچھ	اور نہ	قبول کی جائیگی
---------	--------	----------------	----------	----	---------	-----	--------	----------------

مِنْهَا شَفَاعَةٌ ۗ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ۗ وَلَا هُمْ يُنصَرُوْنَ ﴿٤٨﴾

اُس سے	کوئی سفارش نہ	اور نہ	لیا جائیگا	اُس سے	کوئی تاوان نہ	اور نہ	اُن	مدد کی جائیگی	48
--------	---------------	--------	------------	--------	---------------	--------	-----	---------------	----

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ						
اور جب	ہم نے تمہیں	سے	آل فرعون	وہ تمہیں دکھ دیتے تھے	بُرا	عذاب
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ						
وہ ذبح کرتے تھے	تمہارے بیٹے	اور زندہ چموڑ دیتے تھے	تمہاری عورتیں	اور میں	اُس	آزمائش سے
رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا						
تمہارا رب	بڑی	49	اور جب	ہم نے	تمہارے لئے	دریا
بھرا	تمہیں بچا لیا	اور ہم نے	ڈبو دیا	اور ہم نے	ڈبو دیا	
آلِ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً						
آل فرعون	اور تم	دیکھ رہے تھے	50	اور جب	ہم نے	وعدہ کیا
رات	چالیس	موسیٰ				
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعَجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا						
پھر	تم نے بنا لیا	بچمڑا	اُن کے بعد	اور تم	ظالم لوگ	51
پھر	ہم نے معاف	کر دیا				
عَنْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ						
تمہیں	کے بعد	اُس	تاکہ تم	احسان مانو	52	اور جب
موسیٰ						
الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ						
کتاب	اور کسوٹی	تاکہ تم	ہدایت پالو	53	اور جب	کہا
اپنی قوم سے	موسیٰ					
يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعَجَلَ فَتُوبُوا						
اے قوم	بیشک تم	تم نے ظلم کیا	اپنے اوپر	تم نے بنالیا	بچمڑا	سو تم رجوع کرو
إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ						
طرف	تمہارا پیدا کرنے والا	سو تم بلاک کرو	اپنی جانیں	یہ	بہتر	تمہارے لئے
نزدیک						
بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٥٤﴾ وَإِذْ						
تمہارا پیدا کرنے والا	سو اُس نے	توبہ قبول کی	تمہاری	بیشک وہ	توبہ قبول کرنے والا	رحم کرنے والا
54	اور جب					
قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْتُمُ						
تم نے	کہا	اے موسیٰ	ہم برگز نہ مانیں گے	تجھ	جب تک	ہم دیکھ لیں
اللہ کو	کھلم کھلا	تمہیں آلیا				
الضُّعْفَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿٥٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ						
بجلی کی کڑک	اور تم	تم دیکھ رہے تھے	55	پھر	ہم نے تمہیں	زندہ کیا
موت						
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٦﴾ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا						
تاکہ تم	احسان مانو	56	اور ہم نے	سایہ کیا	تم پر	بادل
اور ہم نے اتارا						
عَلَيْكُمْ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ						
تم پر	مَنَّ	اور سلوی	تم کھاؤ	سے	پاک چیزیں	جو
ہم نے تمہیں دیں						
وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾						
اور نہیں	انہوں نے ظلم کیا	ہم پر	اور لیکن	تھے	اپنی جانیں	وہ ظلم کرتے تھے
57						

اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے رہائی دی، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے بُرے عذاب کا۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چموڑ دیتے تھے، اور اُس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ (49)

اور جب ہم نے تمہارے لئے بھرا دیا، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ (50)

اور جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچمڑے کو اُن کے بعد (معبود) بنا لیا، اور تم ظالم ہوئے۔ (51)

پھر ہم نے تمہیں اُس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ (52)

اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور کسوٹی (حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا) تاکہ تم ہدایت پالو۔ (53)

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم! بیشک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا بچمڑے کو (معبود) بنا کر، سو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنوں کو بلاک کرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، سو اُس نے تمہاری توبہ قبول کر لی، بیشک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ (54)

اور جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم تجھے برگز نہ مانیں گے جب تک اللہ کو ہم کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، پھر تمہیں بجلی کی کڑک نے آلیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ (55)

پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو۔ (56)

اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من اور سلوی اتارا، کھاؤ پاک چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دیں۔ اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ (57)

اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ اور داخل ہونا دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، اور کبھی بخش دے، ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور بہت جلد زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ (58)

پھر ظالموں نے دوسری بات سے اس بات کو بدل ڈالا جو کہی گئی تھی انہیں، پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ (59)

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا، پھر ہم نے کہا: اپنا عصا پتھر پر مارو، تو پتھر پڑے اُس سے بارہ چشمے، ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے۔ (60)

اور جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم ایک کھانے پر برگز صبر نہ کریں گے، آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لئے نکالے جو زمین آگاتی ہے، کچھ ترکاری اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔ اُس نے کہا: کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ بہتر کو ادنیٰ سے، تم شہر میں آترو، بیشک تمہارے لئے ہوگا جو تم مانگتے ہو، اور اُن پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، یہ اس لئے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے، یہ اس لئے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ (61)

وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ							
اور جب ہم نے کہا	تم داخل ہو جاؤ	اس	بستی	پھر کھاؤ	اس سے	جہاں	تم چاہو
رَعَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ							
با فراغت	اور تم داخل ہو جاؤ	دروازہ	سجدہ کرتے ہوئے	اور کبھی	بخش دے	ہم بخش دیں گے	تمہیں
حَطِيئَتِكُمْ <sup>ط</sup> وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا							
تمہاری خطائیں	اور بہت جلد زیادہ دیں گے	نیکی کرنے والے	58	پھر بدل ڈالا	جن لوگوں نے ظلم کیا (ظالم)	بات	
غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا							
دوسری	وہ جو کہ	کہی گئی	انہیں	پھر ہم نے اتارا	پر	جن لوگوں نے ظلم کیا (ظالم)	عذاب
مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٩﴾ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ							
سے	آسمان	کیونکہ	وہ نافرمانی کرتے تھے	59	اور جب	پانی مانگا	موسیٰ اپنی قوم کے لئے
فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا <sup>ط</sup>							
پھر ہم نے کہا	مارو	اپنے عصا سے	پتھر	تو ٹھوٹ پڑے	اُس سے	بارہ	چشمے
قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ <sup>ط</sup> كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ							
جان لیا	تمام لوگ	اپنا گھاٹ	تم کھاؤ	اور پیو	اللہ کے دے ہوئے	رزق سے	
وَلَا تَعَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ							
اور نہ پھرو	میں	زمین	فساد مچاتے	60	اور جب	تم نے کہا	اے موسیٰ
لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا							
برگز نہ صبر کریں گے	پر	کھانا	ایک	پس دعا کریں	ہمارے لئے	اپنا رب	نکالے ہمارے لئے اُس سے جو
تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا							
آگاتی ہے	زمین	(کچھ)	ترکاری	اور ککڑی	اور گندم	اور مسور	
وَبَصَلِهَا <sup>ط</sup> قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ <sup>ط</sup>							
اور پیاز	اُس نے کہا	کیا تم بدلنا چاہتے ہو	جو کہ	وہ ادنیٰ	اُس سے جو	وہ	بہتر
إِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَّا سَأَلْتُمْ <sup>ط</sup> وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ							
تم آترو	شہر	پس بیشک	تمہارے لئے	جو تم مانگتے ہو	اور ڈال دی گئی	اُن پر	ذلت
وَالْمَسْكَنَةَ وَبَاءُوا <sup>ط</sup> بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكُ بِأَنَّهُمْ							
اور محتاجی	اور وہ لوٹے	غضب کے ساتھ	کے	اللہ	یہ	اس لئے کہ وہ	
كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ							
وہ تھے	وہ انکار کرتے	اللہ کی آیتوں کا	اور قتل کرتے تھے	انبیاء			
بِغَيْرِ الْحَقِّ <sup>ط</sup> ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦١﴾							
ناحق	یہ	اس لئے کہ	انہوں نے نافرمانی کی	اور تھے	حد سے بڑھتے	61	

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرِي وَالصَّبِيَّانَ						
بیشک جو لوگ	ایمان لائے	اور جو لوگ	یہودی ہوئے	اور نصاری	اور صابی	
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ						
جو	ایمان لائے	اللہ پر	اور روزِ آخرت	اور عمل کرے	نیک	تو اُن کے لئے
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا						
پاس	اُن کا رب	اور نہ	کوئی خوف	اُن پر	اور نہ	وہ
مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ						
تم سے اقرار	اور ہم نے اٹھایا	تمہارے اوپر	کوہ طور	پکڑو	جو ہم نے تمہیں دیا	مضبوطی سے
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ						
اور یاد رکھو	جو میں	اُس میں	تاکہ تم	پرہیزگار ہو جاؤ	63	پھر تم پھر گئے
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٦٤﴾						
پس اگر نہ	اللہ کا فضل	تم پر	اور اُس کی رحمت	تو تم تھے	سے	نقصان اٹھانے والے
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ						
اور البتہ	تم نے جان لیا	جنہوں نے	زیادتی کی	تم میں سے	ہفتے کے دن میں	تب ہم نے کہا
كُونُوا قِرَدَةً خٰسِئِينَ ﴿٦٥﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا						
تم بوجاؤ	بندر	ذلیل	65	پھر ہم نے اُسے بنایا	عبرت	سامنے والوں کے لئے
وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ						
اور جو	اُس کے پیچھے	اور نصیحت	پرہیز گاروں کے لئے	66	اور کہا	اپنی قوم سے
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقْرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا						
بیشک اللہ	تمہیں حکم دیتا ہے	کہ	تم ذبح کرو	ایک گائے	وہ کہنے لگے	کیا تم کرتے ہو ہم سے مذاق
قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجٰهِلِينَ ﴿٦٧﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا						
اُس نے کہا	میں پناہ لیتا ہوں	اللہ کی	کہ بوجاؤں	جاہلوں سے	67	انہوں نے دعا کہا
رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ						
اپنا رب	بتلائے	ہمیں	کیسی ہے وہ	اُس نے کہا	بیشک وہ	فرماتا ہے کہ وہ گائے
لَّا فَارِصٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴿٦٨﴾						
نہ بوڑھی	اور نہ	چموٹی عمر	جوان	درمیان	اُس	پس کرو
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ						
انہوں نے کہا	دعا کریں	دعا لے	ہمارے لئے	اپنا رب	وہ بتلائے	ہمیں
إِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْعُ لَوْنَهَا تَسْرُ النَّظِيرِينَ ﴿٦٩﴾						
کہ وہ	گائے	زرد رنگ	گہرا	اُس کا رنگ	اچھی لگتی	دیکھنے والے

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی، جو ایمان لائے اللہ پر اور روزِ آخرت پر اور نیک عمل کرے تو اُن کے لئے اُن کے رب کے پاس اُن کا اجر ہے، اور اُن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ (62)

اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور اٹھایا: ”جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ مضبوطی سے پکڑو اور جو اُس میں ہے اُسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔“ (63)

پھر اُس کے بعد تم پھر گئے، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اُس کی رحمت تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ (64)

اور البتہ تم نے (اُن لوگوں کو) جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تب ہم نے اُن سے کہا: تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ (65)

پھر ہم نے اُسے سامنے والوں اور پیچھے آنے والوں کے لئے عبرت بنایا اور نصیحت پرہیز گاروں کے لئے۔ (66)

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: بیشک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے: کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اُس نے کہا: میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں (اِس سے) کہ میں جاہلوں میں سے بوجاؤں۔ (67)

انہوں نے کہا: اپنے رب سے ہمارے لئے پوچھیں کہ وہ ہمیں بتلائے کہ کیسی ہے وہ؟ اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چموٹی عمر کی، اُس کی درمیانی (عمر کی) جوان ہو، پس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے کرو۔ (68)

انہوں نے کہا: ہمارے لئے پوچھیں اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتلائے کہ اُس کا رنگ کیسا ہے؟ اُس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اُس کا رنگ خوب گہرا ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ (69)

انہوں نے کہا: ہمارے لئے اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ وہ کیسی ہے؟ کیونکہ گائے میں ہم پر اشتباہ ہو گیا، اور اگر اللہ نے چاہا تو بیشک ہم ضرور ہدایت پالیں گے۔ (70)

آس نے کہا: بیشک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ سدھی ہو، نہ زمین جوتی نہ کمیٹی کو پانی دیتی، بے عیب،

آس میں کوئی داغ نہ ہو، وہ بولے کہ اب تم ٹھیک بات لائے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ (ذبح) کریں گے۔ (71)

اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا پھر تم اس میں جمگڑنے لگے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چمپاتے تھے۔ (72)

پھر ہم نے کہا: تم اس (مقتول) کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اس طرح اللہ مُردوں کو زندہ کرے گا، وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم غور کرو۔ (73)

پھر آس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، سو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا آس سے زیادہ سخت، اور بیشک کچھ پتھروں سے نہریں ٹھوٹ نکلتی ہیں، اور بیشک ان میں سے کچھ ٹھٹھ جاتے ہیں تو نکلتا ہے ان سے پانی، اور ان میں سے کچھ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ آس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ (74)

پھر کیا تم بڑی تمنا رکھتے ہو کہ وہ مان لیں گے تمہاری خاطر، اور ان میں سے ایک فریق اللہ کا کلام سنتا ہے پھر وہ بدل ڈالتے ہیں آس کو سمجھ لینے کے بعد، اور وہ جانتے ہیں۔ (75)

اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں: کیا تم انہیں وہ بتلاتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کیا تاکہ وہ آس کے ذریعہ تمہارے رب کے سامنے حُجَّت لائیں تم پر، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ (76)

انہوں نے کہا	دعا کریں	ہمارے لئے	اپنا رب	وہ بتلا دے	ہمیں	وہ کیسی	کیونکہ	گائے	اشتباہ ہو گیا	ہم پر
قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ إِنَّ الْبَقْرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا ۗ										
اور بیشک ہم	اگر	اللہ نے چاہا	ضرور ہدایت پالیں گے	70	آس نے کہا	بیشک وہ	فرماتا ہے	کہ وہ	گائے	
وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۗ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقْرَةٌ										
نہ سدھی ہوئی	جوتی	زمین	اور نہ	پانی دیتی	کمیٹی	بے عیب	نہیں	کوئی داغ	آس میں	
لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةً ۖ لَا شِئَةَ فِيهَا ۗ										
وہ بولے	اب	تم لائے	ٹھیک بات	پھر انہوں نے ذبح کیا آس کو	اور وہ لگتے نہ تھے	وہ کریں	71			
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَرَأْتُم فِيهَا ۗ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ										
اور جب	تم نے قتل کیا	ایک آدمی	پھر تم جمگڑنے لگے	آس میں	اور اللہ	ظاہر کرنے والا	جو تم تھے			
تَكْتُمُونَ ۗ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۗ كَذَلِكَ يُحِي اللَّهُ الْمَوْتَى										
چمپاتے	72	پھر ہم نے کہا	اسے مارو	آس کا ٹکڑا	اس طرح	زندہ کرے گا اللہ	مردے			
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۗ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ										
اور تمہیں دکھاتا ہے	اپنی نشانیاں	تاکہ تم	غور کرو	73	پھر	سخت ہو گئے	تمہارے دل	کے بعد		
ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۗ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ										
آس	سو وہ	پتھر جیسے	یا	آس سے زیادہ	سخت	اور بیشک	سے	پتھر		
لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ ۗ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشَقُّ فَيَخْرُجُ مِنْهُ										
البتہ جو	ٹھوٹ نکلتی ہیں	آس سے	نہریں	اور بیشک (کچھ)	آس سے	البتہ جو	تھٹھ جاتے ہیں	تو نکلتا ہے	آس سے	
الْمَاءِ ۗ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ										
پانی	بیشک	آس سے	البتہ گرتا ہے	سے	اللہ کا ڈر	اور نہیں اللہ	بے خبر			
عَمَّا تَعْمَلُونَ ۗ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ										
سے جو	تم کرتے ہو	74	کیا پھر تم بڑی تمنا رکھتے ہو	کہ	مان لیں گے	تمہارے لئے	اور ہے			
فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ										
ایک فریق	ان میں سے	وہ سنتے ہیں	اللہ کا کلام	پھر	وہ بدل ڈالتے ہیں آس کو	کے بعد				
مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۗ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا										
جو انہوں نے سمجھ لیا	اور وہ	جانتے ہیں	75	اور جب	وہ ملتے ہیں	جو لوگ	ایمان لائے	وہ کہتے ہیں		
آمِنًا ۗ وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا اتَّخَذْتُمُوهُمْ بِمَا										
ہم ایمان لائے	اور جب	اکیلے ہوتے ہیں	ان میں سے کچھ پاس	کچھ	کہتے ہیں	کیا بتلاتے ہو انہیں	جو			
فَتَحَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ										
ظاہر کیا اللہ نے	تم پر	تاکہ وہ حجت لائیں تم پر	آس کے ذریعہ	سامنے	تمہارا رب	تو کیا تم نہیں سمجھتے	76			

کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چمپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ (77)

اور اُن میں کچھ اُن پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں۔ (78)

سو اُن کے لئے خرابی ہے جو وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے تاکہ اُس کے ذریعہ حاصل کرلیں تمہوڑی سی قیمت، سو اُن کے لئے خرابی ہے اُس سے جو اُن کے ہاتھوں نے لکھا، اور اُن کے لئے خرابی ہے اُس سے جو وہ کھاتے ہیں۔ (79)

اور اُنہوں نے کہا کہ ہمیں آگ برگز نہ چھوٹے گی سوائے گنتی کے چند دن، کہہ دو: کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے کہ اللہ برگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا یا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ (80)

کیونکہ تم نے کھائی کوئی بُرائی اور اُس کو اُس کی خطاؤں نے گمیر لیا، پس یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (81)

اور جو لوگ ایمان لائے اور اُنہوں نے اچھے عمل کئے یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اُس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (82)

اور جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے پختہ عہد کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ سے حُسنِ سلوک کرنا، اور قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں سے۔ اور تم کہنا لوگوں سے اچھی بات، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم پھر گئے تم میں سے چند ایک کے سوا، اور تم ہو پھر جانے والے۔ (83)

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (۷۷)

کیا نہیں	وہ جانتے	کہ اللہ	جانتا ہے	جو وہ چمپاتے ہیں	اور جو	وہ ظاہر کرتے ہیں
----------	----------	---------	----------	------------------	--------	------------------

وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا

اور اُن میں	اُن پڑھ	وہ نہیں جانتے	کتاب	سوائے	آرزوئیں	اور	وہ	مگر
-------------	---------	---------------	------	-------	---------	-----	----	-----

يُظُنُّونَ (۷۸) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ

گمان سے کام لیتے ہیں	78	سو خرابی	اُن کے لئے جو	لکھتے ہیں	کتاب	اپنے ہاتھوں سے	پھر
----------------------	----	----------	---------------	-----------	------	----------------	-----

يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَيْسَتُرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ

وہ کہتے ہیں	یہ	سے	اللہ کے پاس	تاکہ وہ حاصل کریں	اُس سے	قیمت	تمہوڑی	سو خرابی
-------------	----	----	-------------	-------------------	--------	------	--------	----------

لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (۷۹) وَقَالُوا

اُن کے لئے	اُس سے	لکھا	اُن کے ہاتھ	اور خرابی	اُن کے لئے	اُس سے	وہ کھاتے ہیں	79	اور اُنہوں نے کہا
------------	--------	------	-------------	-----------	------------	--------	--------------	----	-------------------

لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ

برگز نہیں چھوٹے گی	آگ	سوائے	دن	چند	کہہ دو	کیا تم نے لیا	اللہ کے پاس
--------------------	----	-------	----	-----	--------	---------------	-------------

عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا

کوئی وعدہ	کہ برگز نہ	خلاف کرے گا اللہ	اپنا وعدہ	یا	تم کہتے ہو	اللہ پر	جو نہیں
-----------	------------	------------------	-----------	----	------------	---------	---------

تَعْلَمُونَ (۸۰) بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ

تم جانتے	80	کیوں نہیں	جس نے	کھائی	کوئی بُرائی	اور گمیر لیا	اُس کو	اُس کی خطائیں
----------	----	-----------	-------	-------	-------------	--------------	--------	---------------

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۸۱) وَالَّذِينَ

پس یہی لوگ	آگ والے (دوزخی)	وہ	اُس میں	ہمیشہ رہیں گے	81	اور جو لوگ
------------	-----------------	----	---------	---------------	----	------------

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ

ایمان لائے	اور اُنہوں نے کئے	اچھے عمل	یہی لوگ	جنت والے	وہ
------------	-------------------	----------	---------	----------	----

فِيهَا خَالِدُونَ (۸۲) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ

اُس میں	ہمیشہ رہیں گے	82	اور جب	ہم نے لیا	پختہ عہد	بنی اسرائیل
---------	---------------	----	--------	-----------	----------	-------------

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تَفَّ وَالَّذِينَ أَحْسَنَ وَذِي الْقُرْبَىٰ

تم عبادت نہ کرنا	سوائے اللہ	اور ماں باپ سے	حُسنِ سلوک	اور قرابت دار
------------------	------------	----------------	------------	---------------

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

اور یتیم (جمع)	اور مسکین (جمع)	اور تم کہنا	لوگوں سے	اچھی بات
----------------	-----------------	-------------	----------	----------

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ

اور تم قائم کرنا	نماز	اور دینا	زکوٰۃ	پھر
------------------	------	----------	-------	-----

تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ (۸۳)

تم پھر گئے	سوائے	چند ایک	تم میں سے	اور تم	پھر جانے والے	83
------------	-------	---------	-----------	--------	---------------	----

اور پھر جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنوں کے خون نہ بہاؤ گے اور نہ تم اپنوں کو اپنی

بستیوں سے نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ (84)

پھر وہی تم ہو جو قتل کرتے ہو اپنوں کو، اور اپنے ایک فریق

کو اُن کے وطن سے نکالتے ہو، تم چڑھائی کرتے ہو اُن پر گناہ اور سرکشی سے، اور اگر وہ تمہارے

پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ اُن

کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا، تو کیا تم کتاب کی کچھ باتوں پر

ایمان لاتے ہو اور کچھ باتوں کا انکار کرتے ہو؟ سو تم میں جو

ایسا کرے اُس کی کیا سزا ہے؟ سوائے اِس کے کہ دنیا کی زندگی

میں رُسوائی اور وہ قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے

جائیں گے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اُس سے بے خیر نہیں۔ (85)

یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی، سو

اُن سے عذاب ہلکا نہ کیا جائیگا، اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔ (86)

اور البتہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور ہم نے اُس کے بعد لگاتار

تھیجے رسول، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو گھلی نشانیاں دیں

اور اُس کی مدد کی روح القدس (جبرئیل) کے ذریعہ، کیا پھر جب

تمہارے پاس کوئی رسول اُس کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس نہ چاہتے

تھے تو تم نے تکبر کیا، سو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا اور ایک

گروہ کو تم قتل کرنے لگے۔ (87) اور اُنہوں نے کہا: ہمارے دل

پردے میں ہیں، بلکہ اُن پر اُن کے کفر کے سبب اللہ کی لعنت ہے، سو تمہوڑے ہیں جو ایمان لاتے

ہیں۔ (88)

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ

اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد نہ تم بہاؤ گے اپنوں کے خون اور نہ تم نکالو گے

أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

اپنوں سے اپنی بستیاں پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو 84

ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ

پھر تم وہ لوگ قتل کرتے ہو اپنوں اور تم نکالتے ہو ایک فریق اپنوں میں سے

مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ

سے اُن کے وطن تم چڑھائی کرتے ہو اُن پر گناہ سے اور سرکشی اور اگر

يَأْتُوَكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۗ

وہ آئیں تمہارے پاس قیدی تم بدلہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں حالانکہ وہ حرام کیا گیا تم پر نکالنا اُن کا

أَفْتُومِنُونِ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ

تو کیا تم ایمان لاتے ہو کچھ باتیں کتاب اور انکار کرتے ہو کچھ باتیں سو کیا سزا

مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ

جو کرے یہ تم میں سے سوائے رُسوائی میں زندگی دنیا

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے طرف سخت عذاب اور نہیں اللہ بے خبر اُس سے

تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ

تم کرتے ہو 85 یہی لوگ وہ جنہوں نے خرید لی زندگی دنیا آخرت کے بدلے

فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

سو ہلکا نہ کیا جائیگا اُن سے عذاب اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے 86

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۗ

اور البتہ ہم نے دی موسیٰ کتاب اور ہم نے پھر پھر تھیجے رسول

وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ

اور ہم نے دی عیسیٰ مریم کا بیٹا گھلی نشانیاں اور اُس کی مدد کی روح القدس (جبرئیل) کے ذریعہ

أَفَكَلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۗ

کیا پھر جب آیا تمہارے پاس کوئی رسول اُس کے ساتھ جو تم نے تکبر کیا تمہارے نفس نہ چاہتے

فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۗ

سو ایک گروہ نے جھٹلایا اور ایک گروہ تم قتل کرنے لگے 87 اور اُنہوں نے کہا: ہمارے دل پردے میں

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

بلکہ اُن پر لعنت اللہ کی اُن کے کفر کے سبب سو تمہوڑے جو ایمان لاتے ہیں 88



وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ <sup>۷</sup>						
اور جب	اُن کے پاس آئی	کتاب	سے	اللہ کے پاس	تصدیق کرنے والی	اُس کی اُن کے پاس
وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا <sup>۸</sup> فَلَمَّا						
اور وہ تھے	اس سے پہلے	فتح مانگتے	پر	جن لوگوں نے کفر کیا (کافر)	سو جب	
جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ <sup>(۸۹)</sup>						
آیا اُن کے پاس	جو	وہ پہچانتے تھے	اُس کے منکر ہو گئے	سو اللہ کی لعنت	پر	کافر (جمع) 89
بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا						
بُرا ہے جو	بیچ ڈالا انہوں نے	اُس کے بدلے	اپنے آپ	کہ	وہ منکر ہوئے	اُس سے نازل کیا اللہ نے
أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ <sup>۹</sup>						
کہ	نازل کرتا ہے اللہ	اپنے فضل میں سے	پر	جسے وہ چاہتا ہے	اپنے بندوں میں سے	
فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ						
سو وہ کما لائے	غضب	پر	غضب	اور کافروں کے لئے	عذاب	
مُهِينٌ <sup>(۹۰)</sup> وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا						
زُسا کرنے والا	90	اور جب کہا جاتا ہے	انہیں	تم ایمان لاؤ	اُس پر جو	نازل کیا اللہ نے
نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ <sup>۱۰</sup> وَهُوَ الْحَقُّ						
ہم ایمان لاتے ہیں	اُس پر جو	نازل کیا گیا	ہم پر	اور انکار کرتے ہیں	اُس سے جو	علاوہ اُس کے حالانکہ وہ حق ہے
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ <sup>۱۱</sup> قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ						
تصدیق کرنے والا	اُس کی جو	اُن کے پاس	کہہ دیں	سو کیوں	تم قتل کرتے رہے	اللہ کے نبی (جمع)
مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ <sup>(۹۱)</sup> وَلَقَدْ جَاءَكُمْ						
اس سے پہلے	اگر	تم ہو	مومن (جمع)	91	اور البتہ	تمہارے پاس آئے
مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ						
موسىٰ	گھلی نشانیاں کے ساتھ	تھر	تم نے بنا لیا	بجھڑا	اُس کے بعد	اور تم
ظَلْمُونَ <sup>(۹۲)</sup> وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ <sup>۱۲</sup>						
ظالم لوگ	92	اور جب	ہم نے لیا	تم سے پختہ عہد	اور ہم نے	بلند کیا تمہارے اوپر
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَسْمِعُوا <sup>۱۳</sup> قَالُوا سَمِعْنَا						
پکڑو	جو ہم نے دیا تمہیں	مضبوط سے	اور سُنو	وہ بولے	ہم نے سنا	
وَعَصَيْنَا <sup>۱۴</sup> وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ <sup>۱۵</sup>						
اور نافرمانی کی	اور رچا دیا گیا	میں	اُن کے دل	بجھڑا	اُن کے کفر کے سبب	
قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ <sup>(۹۳)</sup>						
کہہ دیں	کیا ہی بُرا ہے جو	تمہیں حکم دیتا ہے	اُس کا	ایمان تمہارا	اگر تم ہو	مومن 93

اور جب اُن کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، اُس کی تصدیق کرنے والی جو اُن کے پاس ہے اور وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگتے تھے، سو جب اُن کے پاس (حق) آگیا جیسے اُنہوں نے پہچان لیا وہ اُس کے مُنکر ہو گئے، سو کافروں پر اللہ کی لعنت۔ (89)

بُرا ہے جس کے بدلے اُنہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یہ کہ وہ اُس کے مُنکر ہو گئے جو اللہ نے نازل کیا، اِس ضد سے کہ نازل کرتا ہے اللہ اپنا فضل اپنے جس بندے پر وہ چاہتا ہے، سو کما لائے غضب پر غضب، اور کافروں کے لئے زُسا کرنے والا عذاب ہے۔ (90)

اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اُس پر جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں: ہم اُس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا اور انکار کرتے ہیں اُس کا جو اُس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے، اُس کی تصدیق کرنے والا جو اُن کے پاس ہے، آپ کہہ دیں: سو کیوں تم اللہ کے نبیوں کو اِس سے پہلے قتل کرتے رہے ہو؟ اگر تم مومن ہو۔ (91)

اور البتہ موسیٰ تمہارے پاس گھلی نشانیاں کے ساتھ آئے، پھر تم نے اُس کے بعد بجھڑے کو (معبود) بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ (92)

اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا (اور کہا) جو ہم نے تمہیں دیا ہے مضبوط سے پکڑو اور سُنو، تو وہ بولے کہ ہم نے سُنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور اُن کے دلوں میں بجھڑا رچا دیا گیا اُن کے کفر کے سبب، کہہ دیں: کیا ہی بُرا ہے جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو۔ (93)

کہہ دیں: اگر تمہارے لئے ہے آخرت کا گمراہی کے پاس خاص طور پر دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی آرزو کرو اگر تم

سچے ہو۔ (94)

اور وہ برگز کبھی موت کی آرزو نہ کریں گے اُس کے سبب جو اُن کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ (95)

اور البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور مشرکوں سے (بھی زیادہ)، اُن میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش وہ ہزار سال کی عمر پائے، اور اتنی عمر دیا جانا اُسے عذاب سے دُور کرنے والا نہیں، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ (96)

کہہ دیں: جو جبرئیلؑ کا دشمن ہو تو بیشک اُس نے یہ آپؐ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے، اُس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری

ایمان والوں کے لئے۔ (97)

جو دشمن ہو اللہ کا اور اُس کے فرشتوں اور اُس کے رسولوں اور جبرئیل اور میکائیل کا، تو بیشک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ (98)

اور البتہ ہم نے آپؐ کی طرف صاف صاف آیات اتاریں اور اُن کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں۔ (99)

کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اُس کو توڑ (نہیں) دیا اُن میں سے ایک فریق نے، بلکہ اُن کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ (100)

اور جب اُن کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے، اُس کی تصدیق کرنے والا جو اُن کے پاس ہے، تو چھینک دیا اہل کتاب کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی

نہیں۔ (101)

کہہ دیں	اگر ہے	تمہارے لئے	آخرت کا گمراہی	اللہ کے پاس	خاص طور پر
قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً					
سوائے	لوگ	تو تم آرزو کرو	موت	اگر	تم ہو
مَنْ دُونَ النَّاسِ فَتَمَتُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (94)					
اور وہ برگز	کبھی	بسبب جو آگے بھیجا	اُن کے ہاتھ	اور اللہ	جاننے والا
وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ					
ظالموں کو	95	اور البتہ تم پاؤ گے انہیں	زیادہ حریص	لوگ	زندگی پر
بِالظَّالِمِينَ (95) وَلَتَجِدَنَّهٖمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوةٍ					
اور سے	جن لوگوں نے شرک کیا (مشرک)	چاہتا ہے	اُن کا ہر ایک	کاش وہ عمر پائے	ہزار سال
وَمَا هُوَ بِمُزَحَّزَجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا					
اور وہ نہیں	اُسے دُور کرنے والا	سے	عذاب	کہ وہ عمر دیا جائے	اور اللہ دیکھنے والا
يَعْمَلُونَ (96) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ					
وہ کرتے ہیں	96	کہہ دیں	جو	ہو	دشمن
عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى					
تیرے دل پر	اللہ کے حکم سے	تصدیق کرنے والا	اُس کی جو	اس سے پہلے	اور ہدایت
وَبُشْرَى لِّلْمُؤْمِنِينَ (97) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ					
اور خوشخبری	ایمان والوں کے لئے	97	جو	ہو	دشمن
وَرُؤْسِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ (98)					
اور اُس کے رسول	اور جبرئیل	اور میکائیل	تو بیشک اللہ	دشمن	کافروں کا
وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا					
اور البتہ	ہم نے اتاری	آپ کی طرف	صاف صاف آیات	اور نہیں انکار کرتے	اُس کا
إِلَّا الْفٰسِقُونَ (99) أَوْ كَلَّمَا عَهْدُوا عَهْدًا نَّبَّأَهُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ					
مگر	نافرمان	99	کیا جب بھی	انہوں نے عہد کیا	کوئی عہد توڑ دیا اُس کو
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (100) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ					
بلکہ	اکثر اُن کے	ایمان نہیں رکھتے	100	اور جب	آیا اُن کے پاس ایک رسول
مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَّأَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ					
تصدیق کرنے والا	اُس کی جو	اُن کے پاس	چھینک دیا	ایک فریق	سے
كِتٰبِ اللَّهِ وَرَأٰ ظُهُورَهُمْ كَانَتْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101)					
اللہ کی کتاب	پیچھے	اپنی پیٹھ	گویا کہ وہ	جاننے نہیں	101

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ						
اور انہوں نے پیروی کی	جو پڑھتے تھے	شیطان	پر	بادشاہت سلیمانؑ	اور کفر نہ کیا	
سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ						
سلیمانؑ	لیکن	شیطان (جمع)	کفر کیا	وہ سکھاتے	لوگ	جادو
وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ						
اور جو نازل کیا گیا	پر	دو فرشتے	بابل میں	ہاروت	اور ماروت	
وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ						
اور وہ نہ سکھاتے	کسی کو	یہاں تک	وہ کہہ دیتے	ہم	آزمائش	پس تو کفر نہ کر
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ						
سو وہ سیکھتے	اُن دونوں سے	وہ	جس سے جدائی ڈال دیں	درمیان	خاوند	اور اُس کی بیوی
وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ						
اور وہ نہیں	نقصان پہنچانے والے	اُس سے	کسی کو	مگر	حُکم سے	اللہ
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوا						
اور وہ سیکھتے تھے	جو انہیں نقصان پہنچائے	اور نہ	انہیں نفع دے	اور البتہ وہ جان چکے		
لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ						
جس نے	یہ خریدا	نہیں اُس کے لئے	آخرت میں	کوئی حصہ	اور البتہ بُرا	
مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ						
جو انہوں نے بیچ دیا	اُس سے	اپنے آپ کو	کاش	وہ جانتے ہوتے	102	اور اگر وہ
أَمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ						
وہ ایمان لاتے	اور پرہیزگار بن جاتے	تو ٹھکانہ پاتے	سے	اللہ کے پاس	بہتر	
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا						
کاش وہ جانتے ہوتے	103	اے	وہ لوگ جو ایمان لائے	نہ کہو	راعنا	
وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾						
اور کہو	انظرنا (ہمیں دیکھو)	اور سُنو	اور کافروں کے لئے	عذاب	دردناک	104
مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ						
نہیں چاہتے	جن لوگوں نے	کفر کیا	سے	اہل کتاب	اور نہ	مشرک لوگ
أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ						
کہ	نازل کی جائے	تم پر	سے (کوئی)	بھلائی	سے	تمہارا رب اور اللہ خاص کر لیتا ہے
بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾						
اپنی رحمت سے	جیسے چاہتا ہے	اور اللہ	فضل والا	بڑا	105	

اور انہوں نے اُس کی پیروی کی جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمانؑ کی سلطنت کا نام لے کر۔ اور کفر نہیں کیا سلیمانؑ نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے اور جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، اور وہ نہ سکھاتے کسی کو یہاں تک کہ کہہ دیتے: ہم تو صرف آزمائش ہیں، پس تو کفر نہ کر، سو وہ سیکھتے اُن دونوں سے وہ کچھ جس سے خاوند اور اُس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اُس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے، اور البتہ وہ جان چکے تھے کہ جس نے یہ خریدا اُس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور البتہ بُرا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ (102)

اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس سے اچھا ٹھکانہ پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ (103)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو (مومنو)! راعنا نہ کہو اور انظرنا (ہماری طرف توجہ فرمائیے) کہو اور سُنو، اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ (104)

اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے اور اللہ جیسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ (105)

کوئی آیت جسے ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے ہم جُملاً دیتے ہیں (تو) اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (106)

کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لئے نہیں اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ مددگار۔ (107)

کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کئے گئے اس سے پہلے موسیٰ سے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے تو وہ جھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ (108)

بہت سے اہل کتاب نے چاہا کہ کاش تمہیں لوٹا دیں تمہارے ایمان کے بعد کفر میں، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، اُس کے بعد جبکہ اُن پر حق صاف نمایاں ہو گیا، پس تم معاف کردو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (109)

اور نماز قائم کرو اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور اپنے لئے جو بھلائی آگے تمہی جوگے تم اسے پالو گے اللہ کے پاس، بیشک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اُسے دیکھنے والا ہے۔ (110)

اور اُنہوں نے کہا: برگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اُس کے جو یہودی ہو یا نصرانی، یہ اُن کی جموٹی آرزوئیں ہیں، کہہ دیجیے کہ تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ (111)

کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لئے جُمکا دیا اور وہ نیکوکار ہو تو اُس کے لئے اُس کا اجر اُس کے رب کے پاس ہے، اور نہ کوئی خوف ہوگا اُن پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ (112)

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا						
جو ہم منسوخ کرتے ہیں	کوئی آیت	یا اُسے جُملاً دیتے ہیں	لے آتے ہیں	بہتر	اُس سے	یا اُس جیسا
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ						
کیا نہیں	تُو جانتا	کہ اللہ	پر	ہر چیز	قادر	106
کیا تو نہیں جانتا	کہ اللہ	پر	ہر چیز	قادر	106	کیا تو نہیں جانتا
كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ						
بادشاہت	آسمانوں	اور زمین	اور نہیں	تمہارے لئے	اللہ کے سوا	کوئی
وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٧﴾ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا						
حامی	اور نہ مددگار	107	کیا تم چاہتے ہو	کہ	سوال کرو	اپنا رسول
سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ						
سوال کئے گئے	موسیٰ	اس سے پہلے	اور جو	تبادلہ (اختیار) کر لے	کفر	ایمان کے بدلے
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ						
سو وہ جھٹک گیا	سیدھا	راستہ	108	چاہا	بہت	سے
لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا ۖ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ						
کاش تمہیں لوٹا دیں	کے	بعد	تمہارا ایمان	کافر	حسد	وجہ سے
أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا						
اپنے دل	کے بعد	جبکہ	نمایاں ہو گیا	اُن پر	حق	پس تم معاف کردو
وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ						
اور درگزر کرو	یہاں تک	لے آئے اللہ	اپنا حکم	بیشک اللہ	پر	ہر چیز
قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا						
قادر	109	اور تم قائم کرو	نماز	اور دیتے رہو	زکوٰۃ	اور جو
لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ						
اپنے لئے	کوئی بھلائی	تم پالو گے اُسے	اللہ کے پاس	بیشک اللہ	جو کچھ تم کرتے ہو	اور اُنہوں نے کہا: برگز داخل نہ ہوگا جنت میں سوائے اُس کے جو یہودی ہو یا نصرانی، یہ اُن کی جموٹی آرزوئیں ہیں، کہہ دیجیے کہ تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ (111)
بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا						
دیکھنے والا	110	اور اُنہوں نے کہا	برگز داخل نہ ہوگا	جنت	سوائے	جو
أَوْ نَصْرَانِيًّا ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ۗ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ						
یا نصرانی	یہ	اُن کی (جموٹی) آرزوئیں	کہہ دیجیے	تم لاؤ	اپنی دلیل	اگر تم ہو
صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَىٰ ۗ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ						
سچے	111	کیوں نہیں	جس	جُمکا دیا	اپنا چہرہ	اللہ کے لئے اور وہ
أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٢﴾						
اُس کا اجر	پاس	اُس کا رب	اور نہ	کوئی خوف	اُن پر	اور نہ
112 وہ غمگین ہوں گے 112						

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَى						
اور کبا	یہود	نہیں	نصاری	پر	کسی چیز	اور کبا
لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ						
نہیں	یہود	کسی چیز پر	حالانکہ وہ	پڑھتے ہیں	کتاب	اسی طرح کبا
لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ						
علم نہیں رکھتے	جیسی	ان کی بات	سو اللہ	فیصلہ کرے گا	ان کے درمیان	قیامت کے دن
فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۱۳﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ						
جس میں	وہ تھے	اس میں	اختلاف کرتے	113	اور کون	بڑا ظالم سے - جو روکا
مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا						
اللہ کی مسجدیں	کہ	ذکر کیا جائے	اس میں	اس کا نام	اور کوشش کی	میں اس کی ویرانی
أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا						
یہ لوگ	نہ تھا	ان کے لئے	کہ	وہاں داخل ہونے	مگر	ڈرتے ہوئے ان کے لئے دنیا میں
خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۱۴﴾ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ						
رُسوائی	اور ان کے لئے	آخرت میں	عذاب	بڑا	114	اور اللہ کے لئے مشرق اور مغرب
فَإِنَّمَا تُولَّوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۱۵﴾						
سو جس طرف	تم منہ کرو	تو اس طرف	اللہ کا سامنا	بیشک اللہ	وسعت والا	جاننے والا 115
وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ						
اور انہوں نے کہا	بنالیا اللہ نے	بیٹا	وہ پاک ہے	بلکہ اس کے لئے	جو	آسمانوں میں
وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قٰنِوٰنٌ ﴿۱۱۶﴾ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ						
اور زمین	سب	اس کے لئے	زیر فرمان	116	پیدا کرنے والا	آسمانوں اور زمین
وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۱۱۷﴾ وَقَالَ الَّذِينَ						
اور جب	وہ فیصلہ کرتا ہے	کوئی کام	تو یہی	کہتا ہے	”ہوجا“	تو وہ ہوجاتا ہے 117 اور کبا جو لوگ
لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِنَا آيَةٌ كَذَلِكَ						
علم نہیں رکھتے	کیوں نہیں	ہم سے کلام کرنا اللہ	یا	ہمارے پاس آتی	کوئی نشانی	اسی طرح
قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ						
کبا	جو لوگ	ان سے پہلے	جیسی	ان کی بات	ایک جیسے ہو گئے	ان کے دل
قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۱۸﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ						
ہم نے نمایاں کر دی	نشانیوں	لوگوں کے لئے	یقین رکھتے ہیں	118	بیشک ہم	آپ کو بھیجا حق کے ساتھ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۱۹﴾						
خوشخبری دینے والا	اور ڈرانے والا	اور نہ آپ سے پوچھا جائیگا	کے بارے میں	دوزخ والے	119	

اور یہود نے کہا کہ نصاریٰ کسی چیز پر نہیں، اور نصاریٰ نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ اسی طرح ان لوگوں نے ان جیسی بات کہی جو علم نہیں رکھتے، سو اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس (بات) میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ (113)

اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، اور اس کی ویرانی کی کوشش کی، ان لوگوں کے لئے (حق) نہ تھا کہ وہاں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لئے دنیا میں رُسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ (114)

اور اللہ کے لئے ہے مشرق اور مغرب، سو جس طرف تم منہ کرو اسی طرف اللہ کا سامنا ہے، بیشک اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ (115)

اور انہوں نے کہا: اللہ نے بیٹا بنالیا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ اسی کے لئے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے حکم کے ماتحت ہیں۔ (116)

پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اُسے یہی کہتا ہے ”ہوجا“ تو وہ ہوجاتا ہے۔ (117)

اور جو لوگ علم نہیں رکھتے، انہوں نے کہا: اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے ان جیسی بات کہی، ان (اگلے پچھلے گمراہوں) کے دل ایک جیسے ہیں۔ ہم نے یقین رکھنے والوں کے لئے نشانیاں صاف نمایاں کرچکے ہیں۔ (118)

بیشک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، اور آپ سے نہ پوچھا جائیگا دوزخ والوں کے بارے میں۔ (119)

اور آپ سے برگز راضی نہ ہوں گے  
یہودی اور نہ نصاریٰ یہاں تک کہ آپ  
ان کے دین کی پیروی کریں، کہدیں:  
بیشک اللہ کی ہدایت ہی (حقیقی)  
ہدایت ہے، اور اگر آپ نے ان کی  
خواہشات کی پیروی کی اُس کے بعد  
جبکہ آپ کے پاس علم آگیا، آپ کے  
لئے اللہ سے کوئی حمایت کرنے والا  
نہیں اور نہ مددگار۔ (120)

ہم نے جنہیں کتاب دی وہ اُس کی  
تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کا  
حق ہے، وہ اُس پر ایمان رکھتے  
ہیں، اور جو اُس کا انکار کریں وہی  
نقصان اُٹھانے والے ہیں۔ (121)  
اے بنی اسرائیل! میری نعمت یاد  
کرو جو میں نے تم پر کی اور یہ  
کہ میں نے تمہیں زمانے والوں پر  
فضیلت دی۔ (122)

اور اُس دن سے ڈرو (جس دن)  
کوئی شخص بدلہ نہ ہوسکے گا  
کسی (دوسرے) شخص کا کچھ  
تھی، اور نہ اُس سے کوئی معاوضہ  
قبول کیا جائیگا اور نہ اُسے کوئی  
سفارش نفع دے گی اور نہ اُن کی  
مدد کی جائیگی۔ (123)

اور جب ابراہیم کو اُن کے رب نے  
چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ  
پوری کر دیں، اُس نے فرمایا: بیشک  
میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا  
ہوں، اُس نے کہا: اور میری اولاد  
کو (تھی)؟ اُس نے فرمایا: میرا عہد  
ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ (124)

اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو  
بنایا لوگوں کے لئے (بار بار) لوٹنے  
(جمع ہونے) کی جگہ اور امن کی  
جگہ، اور ”مقام ابراہیم“ کو نماز  
کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حکم دیا  
ابراہیم اور اسمعیل کو کہ وہ  
میرا گھر پاک رکھیں طواف کرنے  
والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے  
لئے۔ (125)

اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے  
رب! اس شہر کو بنا امن والا،  
اور اس کے رہنے والوں کو بھلوں  
کی روزی دے جو اُن میں سے ایمان  
لائے اللہ اور آخرت کے دن پر،  
اُس نے فرمایا: جس نے کفر کیا  
اُس کو تمہوڑا سا نفع دوں گا پھر  
اُس کو مجبور کروں گا دوزخ کے  
عذاب کی طرف، اور وہ لوٹنے کی  
بری جگہ ہے۔ (126)

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ							
اور برگز راضی نہ ہوں گے	آپ سے	یہودی اور نہ	نصاریٰ	یہاں تک	آپ پیروی کریں	اُن کا دین	
قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي							
کہہ دیں	بیشک	اللہ کی ہدایت	وہی	ہدایت	اور اگر	آپ نے پیروی کی	اُن کی خواہشات بعد (جبکہ)
جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۗ (۱۲۰)							
آپ کے پاس آگیا	سے	علم	نہیں آپ کے لئے	اللہ سے	کوئی کرنے والا	حمایت اور نہ	مددگار 120
الَّذِينَ اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ							
جنہیں ہم نے دی انہیں	ہم نے دی	کتاب	اُس کی تلاوت کرتے ہیں	حق	اُس کی تلاوت	وہی لوگ	ایمان رکھتے ہیں اُس پر
وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۗ (۱۲۱) يُبْنِيٰ اِسْرٰءِیْلَ اذْكُرُوا							
اور جو انکار کریں اُس کا	وہی	وہ	نقصان اُٹھانے والے	121	اے بنی اسرائیل	تم یاد کرو	
نِعْمَتِي الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ (۱۲۲)							
میری نعمت	جو کہ	میں نے انعام کی	تم پر	اور یہ کہ میں نے	تمہیں فضیلت دی	پر	زمانے والے 122
وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا							
اور ڈرو	وہ دن	بدلہ نہ ہوگا	کوئی شخص	کسی شخص کے لئے	کچھ	اور نہ قبول کیا جائیگا	اُس سے
عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۗ (۱۲۳) وَاذِ ابْتَلٰ							
کوئی معاوضہ	اور نہ	اُسے نفع دے گی	کوئی سفارش	اور نہ	اُن	مدد کی جائیگی	123 اور جب آزمایا
اِبْرٰهٖمَ رَبُّهُ بِكَلِمٰتٍ فَاْتَمَّهِنَّ ۗ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۗ قَالَ							
ابراہیم	اُن کا رب	چند باتوں سے	تو وہ پوری کر دیں	اُس نے فرمایا	بیشک میں	تمہیں بنانے والا ہوں	لوگوں کا امام کہا اُس نے
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِیْنَ (۱۲۴) وَاذِ جَعَلْنَا الْبَيْتَ							
اور سے	میری اولاد	اُس نے فرمایا	نہیں پہنچتا	میرا عہد	ظالم لوگ	124 اور جب	اور بنایا ہم نے خانہ کعبہ
مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاْمِنًا ۗ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّی ۗ وَعَهْدَنَا							
اجتماع کی جگہ	لوگوں کے لئے	اور امن کی جگہ	اور تم بناؤ	سے	”مقام ابراہیم“	نماز کی جگہ	اور ہم نے حکم دیا
اِلٰی اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّٰفِیْنِ وَالْعٰكِفِیْنَ وَالرُّكَّعِ							
ابراہیم کو	اور اسمعیل	کہ	وہ پاک رکھیں	میرا گھر	طواف کرنے والوں کے لئے	اور اعتکاف کرنے والے	اور رکوع کرنے والے
السُّجُوْدِ (۱۲۵) وَاذِ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاَرْزُقْ							
سجدہ کرنے والے	125 اور جب	کہا	ابراہیم	اے میرے رب	بنا	یہ شہر	امن والا اور روزی دے
اَهْلَهُ مِنَ الشَّمْرِتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ							
اس کے رہنے والے	کی	بھل (جمع)	جو	ایمان لائے	اُن میں سے	اللہ پر	اور آخرت کا دن
كَفَرَ فَاَمْتَعْتُهُ قَلِيْلًا ثُمَّ اَصْطَرَّتْهُ اِلٰی عَذَابِ النَّارِ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (۱۲۶)							
اُس نے کفر کیا	اُسے نفع دوں گا	تمہوڑا پھر	مجبور کروں گا اُس کو	طرف	دوزخ کا عذاب	اور بُری	لوٹنے کی جگہ 126

اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم اور اسمعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں (یہ دعا کرتے تھے) اے ہمارے پروردگار! ہم سے قبول فرمائے، بیشک تُو سُننے والا، جاننے والا ہے۔ (127)

اے ہمارے رب! اور ہمیں اپنا فرمانبردار بنالے اور ہماری اولاد میں سے ایک اپنی فرمانبردار اُمت بنا اور ہمیں حج کے طریقے دکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، بیشک تُو ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ (128)

اے ہمارے رب! اور اُن میں ایک رسول بھیج اُن میں سے، وہ اُن پر تیری آیتیں پڑھے اور اُنہیں ”کتاب“ اور ”حکمت“ (دانائی) کی تعلیم دے، اور اُنہیں پاک کرے، بیشک تُو ہی غالب، حکمت والا ہے۔ (129)

اور کون ہے جو مُنہ موڑے ابراہیم کے دین سے؟ سوائے اُس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنالیا، اور بیشک ہم نے اُسے دُنیا میں چُن لیا۔ اور بیشک وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ (130)

جب اُس کو اُس کے رب نے کہا: تُو سر جُمکا دے، اُس نے کہا: میں نے تمام جہانوں کے رب کے لئے سر جُمکا دیا۔ (131)

اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے (ہمی) اسی کی وصیت کی، اے میرے بیٹو! اللہ نے بیشک اُسے چُن لیا ہے تمہارے لئے دین، پس تم برگز نہ مرنا، پس تم برگز نہ مرنا مگر مگر مگر، اے میرے بیٹو! اللہ نے بیشک چُن لیا ہے تمہارے لئے دین، پس تم برگز نہ مرنا مگر مسلمان (جمع)۔ (132)

کیا تم تھے موجود جب یعقوب کو موت آئی، تب اُس نے اپنے بیٹوں کو کہا: میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اُنہوں نے کہا: ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، اور تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق کے معبود واحد کی، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ (133)

یہ ایک اُمت تھی جو گزر گئی، اُس کے لئے جو اُس نے کمایا اور تمہارے لئے جو تم نے کمایا، اور تم سے اُس کے بارے میں نہ پوچھا جائیگا جو وہ کرتے تھے۔ (134)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۗ						
اور جب اٹھاتے تھے	ابراہیم	بنیادیں کی	خانہ کعبہ اور اسمعیل	اے ہمارے رب	قبول فرما لے ہم سے	
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ						
بیشک تُو	سُننے والا	جاننے والا	127	اے ہمارے رب	اور ہمیں بنا لے	فرمانبردار اپنا
وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةً لَّكَ ۖ وَإِنَّا مِنَّا كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٨﴾						
اور ہم سے	ہماری اولاد	اُمت	فرمانبردار اپنی	اور ہمیں دکھا حج کے طریقے	اور ہماری توبہ قبول فرما	
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا						
بیشک تُو	توبہ قبول کرنے والا	رحم کرنے والا	128	اے ہمارے رب	اور ہمیں بھیج اُن میں سے	ایک رسول
مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ						
اُن میں سے	وہ پڑھے	اُن پر	تیری آیتیں اور اُنہیں تعلیم دے	”کتاب“ اور حکمت (دانائی)		
وَيُزَكِّيهِمْ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ وَمَنْ يُّرْغَبْ عَنْ مِّلَّةِ						
اور اُنہیں پاک کرے	بیشک تُو	غالب	حکمت والا	129	اور کون	مُنہ موڑے سے دین
إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا						
ابراہیم سوائے اُس کے	جس نے	بیوقوف بنالیا	اپنے آپ کو (کو)	اور بیشک ہم نے اُسے چُن لیا	دنیا میں	
وَإِنَّمَا فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ						
اور بیشک وہ	آخرت میں سے	نیکوکار لوگ	130	جب کہا	اُس کو اُس کا سر جُمکا دے	
قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ						
اُس نے کہا	میں نے سر جُمکا دیا	رب کے لئے	تمام جہان	131	اور وصیت کی اِس کی	ابراہیم اپنے بیٹوں کو
وَيَعْقُوبُ ۚ يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا						
اور یعقوب	میرے بیٹو	بیشک اللہ	چُن لیا	تمہارے لئے	دین	پس تم برگز نہ مرنا مگر مگر
وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ						
اِس حال میں کہ تم	مسلمان (جمع)	132	کیا تم تھے موجود	جب آئی	یعقوب موت	
إِذْ قَالَ لِبنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنِّي بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ						
تب اُس نے کہا	اپنے بیٹوں کو	کس کی تم عبادت کرو گے؟	میرے بعد	اُنہوں نے کہا	ہم عبادت کریں گے	
الهِكَ وَالِاهَ اِبَائِكَ اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَاعِيلَ وَاِسْحٰقَ اِلٰهًا وَاِحْدًا ۗ						
تیرا معبود اور	تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق	معبود واحد				
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ						
اور ہم کے اسی کے فرمانبردار	133	یہ ایک اُمت تھی جو گزر گئی	اور تم نے کمایا	اور تمہارے لئے جو تم نے کمایا	اور تم سے اُس کے بارے میں نہ پوچھا جائیگا	
وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ۗ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾						
اور تمہارے لئے	جو تم نے کمایا	اور تم سے نہ پوچھا جائیگا	اور تم سے نہ پوچھا جائیگا	اُس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے	134	

اور انہوں نے کہا: تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پالو گے، کہہ دیجیے: بلکہ (ہم یہودی کرتے ہیں) ایک اللہ کے ہوجانے والے ابراہیم کے دین کی اور وہ مشرکوں

میں سے نہ تھے۔ (135)

کہہ دو: ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب سے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرمانبردار

ہیں۔ (136)

پس اگر وہ ایمان لے آئیں جیسے تم اُس پر ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا تو بیشک وہی پھیرا تو بیشک وہی ضد میں ہیں، پس بہت جلد اُن کے مقابلے میں آپ کے لئے اللہ کافی ہوگا، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ (137)

(ہم نے اپنایا) رنگ اللہ کا، اور کس کا زیادہ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے؟ اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ (138)

کہہ دیجیے: کیا تم ہم سے جمگڑا کرتے ہو؟ بارے میں حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب اور ہمارے لئے ہمارے عمل اور تمہارے عمل اور ہم خالص

اسی کے ہیں۔ (139)

کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسمعیل، اور اسحاق، اور یعقوب اور اولاد یعقوب یہودی یا نصرانی۔ کہہ دیجیے: کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور کون بے بڑا ظالم اُس سے جس نے وہ گواہی چمپائی جو اللہ کی طرف سے اُس کے پاس ہے، اور اللہ بے خبر نہیں اُس سے جو تم کرتے ہو۔ (140)

یہ ایک اُمت تھی جو گزر چکی، اُس کے لئے ہے جو اُس نے کمایا اور تمہارے لئے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اُس کے بارے میں نہ پوچھا جائیگا جو وہ کرتے تھے۔ (141)

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

اور انہوں نے کہا: ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تم ہدایت پالو گے کہہ دیجیے بلکہ دین ابراہیم

حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ

ایک اللہ کے ہوجانے والے اور نہ تھے سے مشرکین 135 کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر جو کیا گیا نازل

إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

ہماری طرف اور جو کیا گیا نازل طرف ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب

وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ

اور اولاد یعقوب اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور جو دیا گیا نبیوں ان کے رب سے

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِن

ہم فرق نہیں کرتے درمیان کسی اُن میں سے اور ہم اسی کے فرمانبردار 136 پس اگر

آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا

وہ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے اُس پر تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر انہوں نے منہ پھیرا وہی

هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

وہ میں ضد پس بہت جلد آپ کے لئے اُن کے مقابلے میں کافی ہوگا اللہ اور وہ سننے والا جاننے والا 137

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ

رنگ اللہ کا اور کس اچھا سے اللہ رنگ اور ہم اسی کی

عِبَادُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا

عبادت کرنے والے 138 کہہ دیجیے جمگڑا کرتے ہو؟ بارے میں حالانکہ ہمارا رب اور تمہارا رب اور ہمارے لئے ہمارے لئے

أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ تَقُولُونَ

ہمارے عمل اور تمہارے لئے تمہارے عمل اور ہم اُس کے خالص 139 کیا تم کہتے ہو

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا

کہ ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب تھے

هُودًا أَوْ نَصْرَى قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ

یہودی یا نصرانی کیا تم زیادہ جاننے والے یا اللہ اور کون بڑا ظالم

مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

سے جس نے گواہی چمپائی اُس کے پاس سے اللہ اور نہیں اللہ بے خبر

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ

اُس سے جو تم کرتے ہو 140 یہ ایک اُمت تھی جو گزر چکی اُس کے لئے ہے جو اُس نے کمایا اور تمہارے لئے ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے اُس کے بارے میں نہ پوچھا جائیگا جو وہ کرتے تھے۔ (141)

وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

اور تمہارے لئے جو تم نے کمایا اور تم سے نہ پوچھا جائیگا اُس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ (141)